

بینک الحبیب لمیٹڈ
بینک چارجز کاشیڈول
یکم جنوری 2022 سے 30 جون 2022 تک

بین الاقوامی بینکاری

A درآمدات
I کیش لیٹرز آف کریڈٹ
AA. اوپننگ

سالانہ حجم / تقویمی سال کے دوران تکمیل شدہ کاروبار:

کم از کم	پہلی سہ ماہی	ہر اگلی سہ ماہی یا اس کا حصہ (کمیشن)
کم از کم 2100 روپے	0.40 فیصد	0.25 فیصد
کم از کم 2100 روپے	0.30 فیصد	0.18 فیصد
کم از کم 2100 روپے	0.17 فیصد	0.10 فیصد

- a. 10 ملین روپے تک
b. 10 ملین روپے سے زائد سے 100 ملین روپے تک
c. 100 ملین روپے سے زائد

نوٹ: اگر دوران سال صارف / گروپ کے ایل سی کاروبار کا مجموعی حجم 200 ملین روپے سے تجاوز کرتا ہے تو درج بالا کمیشن مجاز عہدیدار سے منظوری حاصل کرنے کے بعد ایڈجسٹمنٹ سے مشروط ہے۔

وہی کمیشن ہوگا جوئی ایل سیز کے کھلنے پر قابل اطلاق ہے۔
درج بالا AA-I
1.00 فیصد 0.30 فیصد 1500 روپے

AB. زائد المیعاد ختم ایل سیز کی توثیق نو یا نئے بینیفیٹری کو منتقل کرنا
II بارٹر امداد / قرضوں کے تحت ناقابل ادائیگی ایل سیز:

1800 روپے (فلیٹ)
1800 روپے اور کمیشن درج بالا AA-I کے مطابق
2000 روپے بمعہ سوئفٹ چارجز

III تراجم:
a. اگر رقم اور / یا مدت ملوث نہ ہو
b. اگر رقم اور / یا مدت میں اضافہ ملوث ہو
IV ایل سی کی منسوخی کے چارجز
V ریٹائرمنٹ:
1 پوزیشن بلز:
میعاد مکمل پر

فی بل 1000 روپے اور اسکے علاوہ زائد کمیشن فی مہینہ 0.15 فیصد یا اس کا حصہ۔
پہلے سے وصول شدہ ایل سی کمیشن کی مدت ختم ہونے کے بعد کم از کم 1000 روپے
(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کم از کم 1000 روپے وصول کیے جائیں گے)
فی بل 1200 روپے فلیٹ
مارک اپ پی اے ڈی لوجمنٹ کی تاریخ سے یا ہمارے اکاؤنٹ کے پہلے سے ڈیبٹ ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ کے ڈیبٹ ہونے کی تاریخ سے

ایل سی / معاہدے کے تحت پوزیشن بلز کی میعاد ادائیگی میں اضافہ
2 سائٹ:

ریٹائرمنٹ پر پی اے ڈی کے قابل اطلاق نرخ درج ذیل ہیں
a. پہلے دن سے لے کر بیسویں دن تک
b. اگلے اکیس دنوں سے پینتیس دنوں تک
c. لوجمنٹ کے پینتیس دنوں بعد

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 50 پیسے
ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 51 پیسے
ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 52 پیسے
(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز سے کم از کم 1000 روپے وصول کیے جائیں گے)
کم از کم 1000 روپے یومیہ بل کی رقم سے قطع نظر

3. زائد المیعاد ایکسپشن کی سہولت

VI ان ورڈ غیر ملکی دستاویزی بلز:

- تمام ان ورڈ ٹرانزیکشن اوپن ہینڈلنگ چارجز/ اکاؤنٹ
- بنیادائیگی، واپس کیے گئے آئٹمز/ بشمول کوریئر چارجز
- تمام غیر ملکی بلز ٹرانزیکشن/ بشمول معاہدہ/ اوپن اکاؤنٹ کی ریٹائرمنٹ/ ادائیگی

d سوئفٹ چارجز

VII درآمدات کے مقابل بیٹنگی ادائیگی

- سوئفٹ ٹرانسفر
- ڈیمانڈ ڈرافٹس
- سروس چارجز

1500 روپے

500 روپے

0.15 فیصد - کم از کم 1500 روپے

VIII کریڈٹ رپورٹس:

- غیر ملکی بینکوں سے یو ایس ڈالر 100
- اصل پر بشمول 30 امریکی ڈالر یا اسکے مساوی پاکستانی روپے بطور سروس چارجز وصول کیے جائیں گے
- 0.20 فیصد فلیٹ، کم از کم 2000 روپے

1000 روپے (فلیٹ)

1000 روپے علاوہ کمیشن درج بالا IXA کے مطابق

اصل

X ری امبرسمنٹ چارجز (ری امبرسنگ بینک کو قابل ادا)

XI بیج کی ترسیل

a. فیل سوئفٹ لیٹر آف کریڈٹ

b. ایل سی میں ترمیم سوئفٹ کے ذریعے

XII ڈسکریٹ دستاویزی ہینڈلنگ

XIII FoB کی بنیاد پر درآمد کے لئے فریٹ سٹیفیکٹ کا اجراء

XIV ای آئی ایف ہینڈلنگ چارجز

XV بینک سے بینک کو ای آئی ایف کی منتقلی

XVI دیگر چارجز

B برآمدات

1. لیٹرز آف کریڈٹ

a. ایڈوانسنگ -

کسٹمرز کے لیے

نان کسٹمرز کے لیے

کسٹمرز کے لیے

نان کسٹمرز کے لیے

c. برآمداتی ایل سیز کے تحت روپے بل میں نیگوسیشن کرنا

d. تصدیق

1500 روپے بمعہ کوریئر چارجز اگر لاگو ہوں

2500 روپے بمعہ کوریئر چارجز

1000 روپے بمعہ کوریئر چارجز اگر لاگو ہوں

1500 روپے بمعہ کوریئر چارجز

0.30 فیصد - کم از کم 1000 روپے

کم از کم 1250 روپے یا 0.40 فیصد فی سہ ماہی، جو بھی زیادہ ہو

زیادہ سے زیادہ - ہر کیس کی بنیاد پر

1500 روپے

450 روپے

1200 روپے

e. برآمداتی ایل سیز کی منتقلی

f. نان ریڈیٹ روپے اکاؤنٹ سے دیگر مقامی بینکوں کو ادا کی جانے والی رقم کی ادائیگی

II اگر ایکسٹرنل ایل سیز کے تحت دستاویزات دیگر بینکوں کو نیگوسیشن کے لیے بھیجے جائیں۔

III کلکیشن

a. دستاویزی (جس پر بینک آپ کیچھڑ فرس نہیں کما تا ہو)

IV ڈیوٹی ڈرائیگ کلیم کی ہینڈلنگ

V جیمینٹ کورپریٹ سے ہی بینک کے فارن کرنسی اکاؤنٹ (NOSTRO) میں وصول ہو جانے کی صورت میں، کلکیشن کی بنیاد پر بھیجے گئے برآمداتی دستاویزات پر سروس چارجز

VI سائٹ لیٹرز آف کریڈٹ کے تحت غیر ملکی کرنسی بلز کی نیگوسی ایشن

VII پیٹنگی ادائیگی پر سروس چارجز

VIII ایس پی او (اسٹینڈرائزڈ پریچیز آرڈر)

IX فریٹ سبسڈی

X ای ای کی تصدیق

XI دیگر بینکوں کو ای ای / ای ایف / این او سی کا اجراء

XII برآمدی ری فنانس درخواستوں پر ہینڈلنگ چارجز

XIII برآمدی ڈولپمنٹ سرچارج

XIV پی آر سی کے اجراء، جانچ پڑتال، دوبارہ تصدیق اور آر اینڈ ڈی کی ادائیگی کے لیے کیس کو آگے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بڑھانے پر سروس چارجز۔ گارمنٹ کی صنعت (سے تعاون) کو سہارہ

XV مقامی ٹیکسز اور لیویز کے ڈرائیگ (گارمنٹس، ہوم ٹیکسٹائل اور فیئر کس)

XVI پروسیسڈ فوڈ کی برآمدات کے لیے 6 فیصد ریسرچ اینڈ ڈولپمنٹ سپورٹ

XVII لائیو فوڈ کے برآمد کنندگان کے لیے 25 فیصد فریٹ سبسڈی (ٹی ڈی اے پی ٹے کرتا ہے)

XVIII این لینڈ فریٹ سبسڈی

XIX برنس پرفارمنس سرٹیفکیٹ

XX ڈیوٹی ڈرائیگ پر کلیم کرنے کے لیے ڈپلیکیٹ انکس اے کا اجراء

XXI جہاں برآمد کنندہ کسی دوسرے بینک کو غیر ملکی زر مبادلہ فروخت کرے اور وصولی کی دستاویزات بذریعہ بینک الحبيب بھیجی جائیں تو ایسی صورت میں، زر مبادلہ سے حاصل ہونے والی آمدنی کی جگہ ہینڈلنگ اور سروس چارجز

XXII زائد المیاد ایکسپورٹ بلز رپورٹنگ کے ہینڈلنگ اور سروس چارجز

XXIII ڈیوٹی ڈرائیگ کی ہینڈلنگ (ڈی ایل ٹی ایل) / ٹیکسٹائل / نان۔ ٹیکسٹائل ہینڈلنگ چارجز (انکریمینٹل اسپیئر)

XXIV گندم / گندم کے آٹے، شکر اور ٹیکسٹائل / نان۔ ٹیکسٹائل اور دیگر سبسڈیز کی برآمدات پر سبسڈی کلیمز کی ہینڈلنگ

XXV کلکیشن دستاویزات کو نیگوشیٹ کرنے کے لئے دیگر بینکوں کے نام برآمدکار این او سی کا اجراء / دیگر بینکوں کو ای ای کی منتقلی

XXVI بی ایل / جوالے کرنے / کھولنے کی صورت میں شیپنگ کمپنیوں کو این او سی کا اجراء

XXVII دوسرے بینک کو برآمد کی حاصل ہونے والی رقم کی منتقلی، جہاں ہمارے یہاں کوئی دستاویزات کی ہینڈلنگ نہیں کی گئی

XXVIII ایل ٹی ایف ایف (ایس پی پی) ایپلیکیشنز کیلئے ہینڈلنگ چارجز

XXIX ایکسپورٹ ڈاکیومنٹ ریٹرن بغیر ادائیگی کے

XXX ایکسپورٹ ایڈوانس جیمینٹ کلیمز کے سروس چارجز جہاں ای فارم تصدیق ہوا

XXXI سرٹیفیکیشن ایس بی پی اپروول کے ایک سال بعد

XXXII WEBOC برآمداتی کی تاریخ کے 45 دن بعد ساقط ای ایف ای

XXXIII ڈپازٹ کے عوض ایکسپورٹس / غیر ملکی کرنسی کی حوالگی

c. کلکیشن (غیر ملکی کرنسی)

I آؤٹ ورڈز

a. کلین بلز

b. بنیادائیگی واپس شدہ چیکس

c. لوکل یو ایس ڈالر کلکیشن

d. واپس شدہ لوکل یو ایس ڈالر کلکیشن کے چارجز

1000 روپے

25 پیسے فی 100 روپے (کم از کم 1000 روپے)

15 پیسے فی 100 روپے (1.5 روپیہ فی 1000 روپے) کم از کم 1500 روپے

او۔ ڈی بانگ شرح لاگو ہوگی۔ اگر 12 دن کے اندر بل کی ادائیگی نہیں ہوئی تو 12 دن بعد کسی بھی تاخیر کے لیے فی دن ہزار روپے پر 50 پیسے وصول کیے جائیں گے۔

15 پیسے فی 100 روپے (1.5 روپیہ فی 1000 روپے) کم از کم 1500 روپے

250 روپے فی آرڈر

1000 روپے فی کیس

1000 روپے فی کیس

1250 روپے

1000 روپے فی سمیشن

100 روپے فی بل

1000 روپے

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

625 روپے

500 روپے فی ٹرانزیکشن

0.10 فیصد کی شرح پر کم از کم 1250 روپے

ٹرانزیکشن کی رپورٹنگ کے وقت فی E فارم - 1000 روپے

100 روپے فی شپنٹ / فی ٹرانزیکشن

1000 روپے فی کیس۔

500 روپے

1000 روپے فلیٹ

1000 روپے۔ بشمول ٹی۔ ٹی سوئفٹ چارجز

2000 روپے فی کیس

1500 روپے

1000 روپے

100 روپے فی ای فارم

10,000 امریکی ڈالر یا دیگر کرنسیوں میں اس کے مساوی رقم کیلئے 0.30 پیسے فی امریکی ڈالر یا دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے مساوی

500 روپے فی انسٹرومنٹ

II ان ورڈ کلین کلکیشن

پاکستانی روپے کی صورت میں، 200 روپے
غیر ملکی کرنسی کی صورت میں، یو ایس ڈالر 5 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی

D. ترسیلات - غیر ملکی

I آؤٹ ورڈ

a. ڈیمانڈ رافٹس

b. ایف ٹی

c. ایف ڈی ڈی کی منسوخی

d. ایف ڈی ڈی کی ادائیگی روکنا

یو ایس ڈالر 18

یو ایس ڈالر 35

یو ایس ڈالر 10

یو ایس ڈالر 6 کے علاوہ اصل پر غیر ملکی بینک کے چارجز

II ان ورڈ

a. ڈی ڈی / ٹی ٹی / ایم ٹی

کوئی چارجز نہیں، اگر پروسیڈز بینک میں موجود اکاؤنٹ میں کریڈٹ، بصورت دیگر

300 روپے چارجز۔

1 فیصد کمیشن

III غیر ملکی ٹریولرز چیکس کا اجراء

E فارن بلز کی خرید

I غیر ملکی کرنسی انسٹرومنٹس:

چیکس، ڈرافٹس، ٹیسز، آئی ایم اوز وغیرہ۔ اکاؤنٹ میں کریڈٹ کے لیے خریدے گئے

او۔ ڈی بانگ ریٹ لاگو ہوں گے۔ اگر 12 دن کے اندر بل کی ادائیگی نہیں ہوئی تو 12

دن بعد کسی بھی تاخیر کے لیے فی دن 1000 روپے پر 50 پیسے بشمول 50 روپے

ہینڈلنگ چارجز وصول کیے جائیں گے۔

متفرق سیکشن "F" کے مطابق

II دیگر چارجز

F. متفرق:

I کورس پونڈنس کے چارجز

II پونج / کوریئر / سوئفٹ چارجز کی وصولی درج ذیل کی جائیں گی:

اصل

200 روپے

i. 2300 روپے

ii. جہاں کوریئر کمپنی کی جانب سے کوریئر چارجز براہ راست ڈیبٹ ہوئے ہوں کسٹمر کے

اکاؤنٹ سے تو بطور سروس چارجز 150 روپے چارج کئے جائیں گے۔

1000 روپے فی پیغام

پونج

کوریئر

سوئفٹ

ہر صارف سے 60 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی پاکستانی روپے وصول کیے جائیں

III غیر ملکی خریداروں / سپلائرز کی کریڈٹ رپورٹ

IV دیگر بینکوں سے ٹیسٹ کی تصدیق کے چارجز:

275 روپے

V غیر ملکی زر مبادلہ کی ٹرانزیکشنز کی ترسیلات زر کیلئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے منظوری کیلئے، 1500 روپے فی کیس

جہاں ضرورت ہو

اندرون ملک بینکاری

A. ترسیلات زر:

a. بینکرز چیک کا اجراء 300 روپے (تعلیمی اداروں، ایچ ای سی/ بورڈ وغیرہ کی فیس/ واجب الادا رقم کیلئے بینکرز چیک/ ڈیمانڈ ڈرافٹ پر فیس لاگو نہیں ہوگی)۔

b. ڈرافٹس، ایم ٹیز، ٹی ٹیز کا اجراء

i. ہمارے کورسپونڈینٹ پر ڈرافٹ ہونے والے

c. فیکس / ٹی ٹیز پر سوئفٹ چارجز

d. پونج

e. منتقلی بذریعہ آئی بی سی اے

f. (i) آن لائن ٹرانزیکشن جمع کروانا / رقم نکالنا

II ڈی ڈی / پی او / بینکرز چیک کی منسوخی کے چارجز

III ڈی ڈی کی ادائیگی رکوانا

IV ڈپلیکیٹ ڈیمانڈ ڈرافٹ

V ڈپلیکیٹ بینکرز چیک

B. اندرون ملک تجارت

I ساقط ایل سیز کی توثیق نو یا نئے بنیفیشری کو منتقل کرنا

II اندرون ملک لیٹرز آف کریڈٹ کھولنے کا کمیشن

III اندرون ملک ایل سی دستاویزات میں غلطی کے چارجز

IV ایل سیز میں ترمیم

a. اگر رقم اور / یا مدت سے سروکار یا واسطہ نہ ہو

b. اگر مدت شامل ہو

c. اگر رقم میں اضافہ درکار ہو

V ریٹائرمنٹ:

1- مقامی ایل سی کے تحت مکمل میعاد پر بلز کی ریٹائرمنٹ

2- یوزینس بلز: میعاد پر

3 سائٹ

(i) ریٹائرمنٹ پر پی اے ڈی کے لیے قابل اطلاق نرخ درج ذیل ہیں

a. پہلے دن سے لے کر بیسویں دن تک

b. اگلے اکیسویں دن سے پینتیسویں دن تک

c. لو جمنٹ کے پینتیسویں دن کے بعد

VI کلکیشن

a. دستاویزی (ایل ڈی بی سی اور ایل ای ڈی بی سی)

b. کلین (بشمول چیکس)

c. رجسٹریشن کے بینڈنگ چارجز / اسٹینڈرڈ پر چیز آرڈر کی ادائیگی (ایس پی او)

VII اندرون ملک کی ایل سیز کے لیے نیگوسی ایشن

VIII بلز اور چیکس وغیرہ کی خریداری:

a. دستاویزی بلز علاوہ اُن کے جو ایل سی اور کلین بلز / ٹریڈ چیکس پر ڈرا کیے گئے ہوں

b. دیگر چیکس / ڈیمانڈ انسٹرومنٹ (جیسے ڈیوڈنڈ وارنٹس)

ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 46 پیسے فی دن

ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 47 پیسے فی دن

ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 50 پیسے فی دن

0.35 فیصد کم از کم 450 روپے بمعہ ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز

0.25 فیصد کم از کم 125 روپے، زیادہ سے زیادہ 600 روپے بمعہ ادائیگی کرنے والے

بینک کے چارجز

250 روپے

بل کی رقم کا 0.25 فیصد بمعہ تصدیق شدہ نرخوں میں کمی

0.40 فیصد کم از کم 100 روپے بمعہ شرح سود سے 41 پیسے فی دن فی ہزار انسٹرومنٹ کی

خریداری کی تاریخ سے لیکر انسٹرومنٹ کی وصولی بمعہ بینک چارجز

انسٹرومنٹ کی خریداری کی تاریخ سے لے کر ادائیگی کی وصولی کی تاریخ تک 0.35 فیصد

کم از کم 30 روپے، فی دن ہزار روپے پر 41 پیسے کا شرح منافع کے ساتھ، علاوہ

ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز

IX بغیر ادائیگی واپس آنے والے مقامی بلز

500 روپے

X متفرق چارجز: درج ذیل کے مطابق جہاں قابل اطلاق ہوں (درج بالا I-V) زائد ہوں گے۔

a. کلکٹنگ بینک چارجز (اگر کلکٹنگ بینک، بینک الحبیب لمیٹڈ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو) اصل علاوہ 50 روپے

b. بذریعہ فون/ فیکس انسٹرومنٹس کی معلومات 50 روپے

c. انسٹرومنٹ واپس ہونے کے چارجز

دستاویزی کلکیشنز کے لیے

کلین کلکیشنز کے لیے

200 روپے بمعہ پوسٹ/ کوریئر چارجز

50 روپے بمعہ پوسٹ/ کوریئر چارجز

50 پیسے فی دن فی پیکٹ، کم از کم 50 روپے

d. اسٹوریج چارجز

e. کوریئر چارجز:

- بینک الحبیب کی برانچوں کے لیے

- دیگر بینکوں کے لیے

60 روپے

125 روپے

C. فنانسنگ / ایڈوانسز

I درج ذیل چارجز، مارک اپ کے علاوہ اضافی لیے جائیں گے:

- منصوبے کی معائنہ اور جائزہ فیس

- قانونی اور انتظامی فیس

- متفرق چارجز (سیکیورٹی کو جانچنا اور اسکا مینٹنس)

II رہن اور ہائپوٹھیکیشن پرفنانس کے لیے

مختلف چارجز اور ہائپوٹھیکیشن نافذ ہو سکتے ہیں:

a. گودام کا کرایہ

b. گودام کے اسٹاف کی تنخواہیں اور مقدم کے چارجز

c. گودام کے معائنے کے چارجز:

i. میونسپل حدود کے اندر

ii. میونسپل حدود کے باہر

d. حوالے کرنے کے چارجز - اگر گودام کارکھوالا تعینات نہ کیا گیا ہو

e. اسٹاک کا معائنہ:

i اگر یہ معائنے بینک کی جانب سے مقرر کردہ ایجنٹس کریں

ii اگر یہ معائنے بینک کا اسٹاف کرے

اصل

(i) بلدیاتی حدود -/1000 روپے کے اندر

(ii) بلدیاتی حدود سے باہر -/2000 روپے فی معائنہ (45-30 دنوں میں زیادہ سے

زیادہ 1 مرتبہ)

نوٹ: بینک کے ایگزیکٹو/ بیرونی اور اندرونی آڈیٹرز کے ذریعے سے گوداموں پر وقتاً فوقتاً

اچانک معائنے کی صورت میں چارجز نہیں ہونگے

اگر کوئی پارٹی کریڈٹ لائن کی منظوری حاصل کیے ہوئے ہو اور کمیٹیڈ کیے گئے کاروبار کو

پہنچانے میں ناکام ہو جائے تو بینک کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ متلافی کمیشن وصول

کرے جو کہ زیادہ سے زیادہ 5 فیصد کی شرح سے کاروبار میں خسارے کی حد تک ہو، وہ

کاروبار جو کہ پیشگی انتظام کے مطابق ہمارے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہو۔

200 روپے فی ترسیل

f. کاروباری عہد اور معاوضہ کمیشن

g. پلیجڈ کے سامان پر ڈیوری آرڈر چارجز

(i.h) قانونی چارجز:

. اندرونی قانونی معاونت:

2000 روپے فی دستاویز

500 روپے

اصل

100 روپے فی رپورٹ

زائد المعیاد کی تاریخ / ادائیگی کی تاریخ تک میچورٹی سے 20% سالانہ

3750/- روپے فلیٹ فی NOC

. جائیداد کے دستاویزات کی نظر ثانی

. دیگر اداروں کی طرف سے جاری کردہ سیکورٹیز پر حق تصرف (لیین) کی نوٹنگ

. بیرونی قانونی معاونت:

III سی آئی بی رپورٹ چارجز

IV قرضہ جاتی سہولیات پر زائد المعیاد شرح (بشمول رعایت اور لیزنگ)

V مزید پروجیکٹس کیلئے انکے فکسڈ اور کرنٹ اثاثہ جات کے حصول کیلئے اضافی /

مساوی چارجز / سینڈ چارج صارفین / کلائنٹس کی درخواست پر NOC کا اجراء

(صارف کی درخواست پر)

VI اگر بینک کے افسران کو رہن کی واپسی کیلئے رجسٹر کے پاس جانا ہو تو ایسی

صورت میں ریڈمپشن فیس پارٹی سے وصول کی جائے گی

VII سیکورٹی آف آپیکس کمیشن (ایس ای سی پی) سے رجسٹریشن / ترمیم / سیٹیفیکیشن / اصل پر

ویکشین آف چارج اور ڈائریکٹر / چارج سرچ / سی ٹی سی وغیرہ

VIII کنٹرول اینڈ سیکورٹی دستاویزات پر اسٹیمپ ڈیوٹی ہر صوبے میں لاگو اسٹیمپ اسٹیمپ پیپر / چکنے والے ڈاک ٹکٹ کی اصل قیمت پر

ڈیوٹی ایکٹ کے مطابق

IX کمرشل وہیکل لیزنگ (CVLD کے ذریعے)

7500 روپے

اصل پر

واجب الادا رقم کا کل 1 فیصد

اصل پر

اصل پر

لیز رینٹل کی واجب الادا رقم کا 20% سالانہ

500 روپے

اصل پر

100,000 یا اصل پر جو بھی زیادہ ہو

اصل پر (صارف ادا کرے گا)

اصل پر

a پروسیڈنگ فیس

b دستاویز کے چارجز

c ابتدائی تصفیے کے چارجز

d اضافی تخمینے کے چارجز

e تخمینے کے چارجز۔ گاڑی کی دوبارہ ملکیت

f تاخیر سے ادائیگی کے چارجز

g چیک واپس ہونے پر چارجز

h گاڑی کی رجسٹریشن / منتقلی کے چارجز

i دوبارہ ملکیت کے چارجز

j گاڑی کا ٹیکس

k قانونی چارجز

X۔ زرعی قرضہ جات

(i) تمام نئے / تجدید شدہ فارم اور نان۔ فارم لون

1500 روپے

2500 روپے

منظور شدہ رقم کا 0.1 فیصد زیادہ سے زیادہ 15000 روپے

1000 روپے

اوپر دیئے گئے سلیب کے مطابق رقم

1.5 ملین تک کے قرضے

1.5 ملین سے زیادہ 3 ملین تک

3 ملین سے زیادہ

(ii) پہلے ٹریکٹر کیلئے قرضہ

(iii) اگلے ٹریکٹر کیلئے قرضہ

XI کمرشل کریڈٹ

(i) مالی نیا/تجدید شدہ

2 ملین تک کے قرضے

2 ملین سے زیادہ 5 ملین تک

5 ملین سے زیادہ 10 ملین تک

10 ملین سے زیادہ 20 ملین تک

20 ملین سے زیادہ 50 ملین تک

50 ملین سے زیادہ 100 ملین تک

100 ملین سے زیادہ

1250 روپے

2000 روپے

5000 روپے

10000 روپے

20000 روپے

30000 روپے

50000 روپے

(ii) اضافہ / کمی / ای او ایل / ون آف ٹرانزیکشنز اور عارضی توسیع

(iii) قلیل المدت زائد المعیاد قرضہ کی سہولت

کوئی نہیں

زائد المعیاد ایس ٹی ایف رقم پر 20% سالانہ کی شرح سے چارج کیا جائے گا

XII۔ چینل فنڈنگ

(i) نئے / تجدید شدہ / اضافی

(ii) اضافہ / کمی / ای او ایل / ون آف ٹرانزیکشنز اور عارضی توسیع

5000 روپے فلیٹ

کوئی نہیں

XIII۔ اسال اینڈ میڈیم اینٹرپرائزز (ایس۔ ایم۔ ای)

(i) نیا / تجدید شدہ

مالی سہولت 10 ملین تک

مالی سہولت 10 ملین سے زیادہ

(ii) نیا / تجدید شدہ / ون آف / اضافہ

- غیر مالی سہولت

- ایل جی / بل میں رعایت اور بل کی خریداری

(iii) ایس ایم ای صارفین (ایس ای اور ایم ای) کے واجب الادا چارجز

5,000 روپے

0.05 فیصد زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے

کوئی نہیں

کوئی نہیں

20 فیصد ایس ٹی ایف سہولت کے عوض

نوٹ: مندرجہ ذیل میں یعنی کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس، چینل فنڈنگ، کمرشل وہیکل لیزنگ کے علاوہ تمام ایس ایم ایز پر ایس ایم ای SOC لوگو ہیں۔

D لاکر کی سہولیات

لاکرز چند ہی برانچوں میں دستیاب ہیں۔ اگر 'کی ڈپازٹ' کی ضرورت پوری نہیں کی جاتی تو موجودہ اور نئے صارفین سے لاکر کی سالانہ فیس مدت شروع ہوتے وقت پیشگی وصول کی جائے گی

a کی ڈپازٹ

یا

b سالانہ فیس

چھوٹے لاکر کے لیے 30,000 روپے

درمیانے لاکر کے لیے 40,000 روپے

بڑے لاکر کے لیے 50,000 روپے

چھوٹے لاکر کے لیے 5,000 روپے

درمیانے لاکر کے لیے 6,250 روپے

بڑے لاکر کے لیے 7,500 روپے

5,000 روپے

2000 روپے فلیٹ

c لاکر ڈوانے کے چارجز

d لاکر کی چابی اور لاکر کی تبدیلی

E. گارنٹیز

- I. بل آف لیڈنگ / ایئر کنسائمنٹ نوٹس کے بدلے میں شپنگ کمینیز / ایئر لائنز کو جاری کردہ گارنٹیز
- II. ڈیوٹی کی ادائیگیوں کے بدلے میں کسٹم کے کلکٹر کو جاری کردہ گارنٹیز
- III. دیگر گارنٹیز
- IV. برآمد سے حاصل ہونے والی رقم و دھولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جاری کردہ گارنٹیز
- V. دیگر گارنٹیز بشمول موخر ادائیگیوں کی گارنٹیز سپلائر یا بائزر کریڈٹ / وصول کنندہ اسکیم کے تحت :
- a. اُن کانسٹس کے لیے جو 15 ملین روپے تک کی گارنٹی کی سہولت استعمال کر رہے ہیں۔ 0.40 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ ، کم از کم 500 روپے
- b. اُن کانسٹس کے لیے جو 15 ملین روپے سے زائد کی گارنٹی کی سہولت استعمال کر رہے ہیں۔ (کمپنڈ سالانہ کاروبار کی تکمیل نہ ہونے کی صورت میں درج بالا شرح (a) کا اطلاق ہوگا اور باقی رقم کا فرق وصول کر لیا جائے گا)
- VI. گارنٹی لیٹر کے متن میں ترمیم (رقم اور مدت وہی رہے گی) ترمیمی کمیشن 850 روپے
- VII. ایل جی کی وصولی کے چارجز (کارپوریٹ کسٹمرز کی جانب سے گارنٹیز کی وصولی اور یہ سروس ان کے لئے ہے جنھیں قرضے کی سہولت میسر ہے) 1000 روپے فی انسٹرومنٹ / ایل جی
- VIII. بینشٹری / اسائنٹی کی جانب سے ہماری ایل سی کے عوض ہینڈلنگ کمیژن کیلئے سروس 2500 روپے فلیٹ
- چارجز (بینک کے باہر سے یا دوسرے بینک سے دعویٰ وصول کرنے کی صورت میں صارف سے چارجز کی وصولی)
- نوٹس: رقم میں اضافہ ہو یا معینہ مدت میں، یکساں چارجز قابل اطلاق ہونگے۔
- گارنٹی جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر میعاد ختم ہونے تک گارنٹی کمیشن وصول کیا جائے گا۔

F. انویسٹمنٹ پورٹفولیو سیکورٹیز اکاؤنٹ (IPS)

- (i) انویسٹمنٹ پورٹ فو لویو سیکورٹیز 1200 روپے فی ٹرانزیکشن
- (ii) کسٹڈی اکاؤنٹ چارجز 2500 روپے فی ماہ

G. متفرق چارجز:

1. چیکس کی ادائیگی روکنا
2. لوژ چیکس کا اجراء
3. بینک کو چیک وصول ہوں اور نا کافی رقم کے سبب بنا ادائیگی واپس ہونے پر
4. اسٹینڈنگ انسٹرکشن چارجز (پینشنر اکاؤنٹ کے لیے کوئی چارجز نہیں)
5. صارف کی درخواست پر ادائیگی کے حوالے سے اعتباری سرٹیفیکٹ اجراء پر
6. صارف کی درخواست پر اکاؤنٹ اسٹینڈنگ کے اجراء پر
- (اگر صارف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھیجی گئی اسٹینڈنگ وصول نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے)
- (i) 6 ماہ تک اکاؤنٹ اسٹینڈنگ 35 روپے
- (ii) 6 ماہ سے زائد عرصے کا اکاؤنٹ اسٹینڈنگ اضافی 35 روپے ہر 6 ماہ پر

7. اُسی دن، چیکس کلیئر ہونے کے چار جز
8. اُسی دن کا کلیئرنگ چیک جو ہم پر ڈرا ہوا اور نا کافی فنڈ کی صورت میں بغیر ادائیگی واپس ہو جائے

9. آن لائن، چیک واپس ہونے پر چار جز

10. دیگر بینکوں/بجٹ مرکز سے کوپرز پر منافع وصول کرنے کے کلیکشن چار جز

11. ادا کردہ چیکس کی فوٹو کاپیاں

12. ادا کردہ چیکس کی تصدیق کے حوالے سے سرٹیفکیٹ کا اجراء

13. چیک بک کے چار جز (پیشینہ اکاؤنٹ کے لیے مفت چیک بک)

14. کال ڈپازٹ رسید کے اجراء کے چار جز

15. کال ڈپازٹ رسید کی ڈپلیکیٹ کے چار جز

16. کال ڈپازٹ رسید کی منسوخی کے چار جز

17. اکاؤنٹ مینینٹنس سرٹیفکیٹ

18. انٹرسٹی چیکس کی وصولی بذریعہ نمٹ

19. انٹراسٹی، چیک کی واپسی کے چار جز

20. بذریعہ پریم سسٹم تھرڈ پارٹی کے فنڈز منتقلی کی سیٹلمنٹ

- کم از کم قیمت کی حد 1,000,000 روپے اور زائد

- پیر سے جمعہ : صبح 9 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک

دوپہر 1:30 بجے سے دوپہر 3:00 بجے تک

دوپہر 3:00 بجے سے شام 4:00 بجے تک

- کم از کم قیمت کی حد 100,000 روپے

- پیر سے جمعہ : صبح 9 بجے سے شام 4:30 بجے تک

21. بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ

22. ایکسپریس چیک بک (10 لیوز)

23. بیلنس کا سرٹیفکیٹ

24. پرانے ریکارڈ کے حصول کیلئے

1 سال تک

2 سال تک

3 سال تک

3 سال سے زائد

25. قومی پرائز بونڈ پر بینک چار جز - جیتی گئی رقم کے کلیم پر

26. CIT (کیش ان ٹرانزٹ) چار جز قومی پرائز بونڈ پر - جیتی گئی رقم کے دعوے پر

27. اسٹیٹ بینک آف پاکستان/نیشنل بینک آف پاکستان کے چیکس کے اجراء پر/

اسٹیٹ بینک (صرف صارف کی درخواست پر)

28. SECP آن لائن پورٹل سروس چار جز

150 روپے فی کیس

اصل (اگر جیتی گئی رقم -/100,000 روپے کے مساوی یا اس سے زیادہ ہو)

500 روپے

پرائیویٹ کمپنیز 1100 روپے، پبلک کمپنیز 2000 روپے

کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس

I. ذاتی قرضے کی سہولت

- پروسیڈر فیس
 - پچھلی ادائیگی
 - تاخیر سے ادائیگی پر چارجز
 - جزوی ادائیگی کی فیس / چارجز
 - مقدمہ سازی / قانونی چارجز
 - قانونی دستاویزات / معاہدے کے اسٹیمپنگ چارجز
- II. فنانس کی سہولت
- قانونی دستاویزات کی سہولت / معاہدے کے اسٹیمپنگ چارجز
 - پروسیڈر فیس
 - ٹی بی بی مارکنگ کے چارجز (بینک الحیب کے علاوہ)
 - تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- III. آٹو کے قرضہ جات
- پروسیڈر فیس

- نئی گاڑیوں کی
 - درآمد شدہ / مرمت شدہ اور استعمال شدہ گاڑیوں کی
 - جلد ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی)
 - تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
 - چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
 - دوبارہ قبضے میں لینے جانے پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر)
 - گاڑی کے معائنے / تحیص کے چارجز
 - گاڑی کے دوبارہ قبضے پر معائنے / تحیص کے چارجز
 - مقدمہ سازی / قانونی چارجز
 - جزوی پری بیمنٹ فیس / چارجز
 - ذاتی، حادثاتی بیمہ
 - گاڑی کی رجسٹریشن / ٹرانسفر چارجز / سکیورٹیز ٹرانزیکشن رجسٹری
- IV۔ روٹن اپنی کار (آؤٹانس فیسٹی برائے اوور سیز پاکستانی)

- پروسیڈر فیس
- جلد ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی)
- تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
- دوبارہ قبضے میں لینے جانے پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر)
- گاڑی کے معائنے / تحیص کے چارجز
- گاڑی کے دوبارہ قبضے پر معائنے / تحیص کے چارجز
- مقدمہ سازی / قانونی چارجز
- جزوی ادائیگی کی فیس / چارجز
- ذاتی حادثاتی انشورنس
- گاڑی کی رجسٹریشن / منتقلی کے چارجز
- ویزہ ہاؤس چارجز
- کوریئر چارجز (غیر ملکی)
- تصدیق کے چارجز

V۔ آؤٹ لیزنگ (پڈریج کنزیومر بینکنگ ڈویژن)

- پروسیڈر فیس فی ٹریج
- قانونی دستاویزات / معاہدے کے اسٹیمپنگ چارجز
- جلد ادائیگی کی فیس / چارجز
- تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
- دوبارہ قبضے میں لینے جانے پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر)
- گاڑی کے معائنے / تحیص کے چارجز
- مقدمہ سازی / قانونی چارجز

VI۔ ہاؤسنگ فنانس فیسٹی (بیمول کیٹگری II کے تحت رینو ایبل انرجی سولوشنز کیلئے قرضہ انفرادی افراد کیلئے)

- پروسیڈر فیس
- جلد ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی)
- تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
- چاندی کے معائنے / تحیص کے چارجز
- ویل کی فیس
- آمدنی کے تخمینے کے چارجز / فیس
- دستاویزات / اسٹیمپنگ چارجز
- کوریئر چارجز (فارن)

VII۔ ہاؤسنگ فنانس کیلئے گورنمنٹ مارک اپ سبسڈی اسکیم (میرا پاکستان میرا گھر)

- پروسیڈنگ فیس
- قبل از وقت ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی)
- تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
- جائیداد کے معائنے / تخصیص چارجز
- وکیل کی فیس
- آمدنی کے تخمینے کے چارجز / فیس
- دستاویزات / اسٹیٹمنٹ چارجز
- کورریجر چارجز (فارن)

کوئی نہیں
کوئی نہیں
900 روپے
500 روپے
اصل
اصل
اصل
اصل
اصل

VIII۔ پرائم منسٹر یوتھ بزنس پلان (اسال اینڈ میڈیم انٹرنپرائزز)

- قانونی دستاویزات / معاہدے کے اسٹیٹمنٹ چارجز
- پروسیڈنگ فیس
- معائنے / تخصیص کے چارجز
- وکیل کی تخصیص فیس
- آمدنی کا تخمینہ

اصل
100 روپے
اصل
اصل
اصل

IX۔ روٹن اپنا گھر (بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کیلئے ہاؤس فنانس کی سہولت)

- پروسیڈنگ فیس
- قبل از وقت ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی)
- تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- چیک کی واپسی پر چارجز
- جائیداد کے معائنے / تخصیص چارجز
- وکیل کی فیس
- آمدنی کے تخمینے کے چارجز / فیس
- دستاویزات / اسٹیٹمنٹ چارجز
- کورریجر چارجز (فارن)

4000 روپے
ایک سال کے اندر 1 فیصد، اسکے بعد کوئی چارجز نہیں
900 روپے فی تاخیر سے کی گئی قسط
500 روپے فی کیس
اصل
اصل
اصل
اصل
اصل

آئٹریٹ ڈیپوزی (اے ڈی سی) جیٹلر

- فنڈ ٹرانسفر کی سہولت
انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر بذریعہ اے ٹی ایم / انٹرنیٹ بینکنگ / موبائل بینکنگ

25,000 روپے فی مہینہ / فی اکاؤنٹ تک مفت آئی بی ایف ٹی۔
25,000 روپے فی مہینہ / فی اکاؤنٹ سے زائد اضافی رقم کیلئے، ٹرانزیکشن کی رقم کا
0.1 فیصد یا 200 روپے، جو بھی کم ہو، چارج کیا جائے گا۔

II۔ اے ٹی ایم

- اے ٹی ایم پن کا دوبارہ اجراء
- اے ٹی ایم سوچ ٹرانزیکشنز
- دیگر بینکوں کے اے ٹی ایم سے نکالوانے پر
- لوکل بینکس معلوم کرنے کے چارجز
- اے ٹی ایم رسید کی پرنٹنگ کی صورت میں فیس

100 روپے
18.75 روپے فی ٹرانزیکشن
2.50 روپے فی ٹرانزیکشن
2.50 روپے فی ٹرانزیکشن

III۔ ویزا ڈیبٹ کارڈ

- بنیادی کارڈ کی سالانہ / اجراء / تجدید / متبادل کارڈ فیس
- سپیشلائزڈ کارڈ کی سالانہ / اجراء / تجدید / متبادل کارڈ فیس
- اے ٹی ایم بین الاقوامی کیش ووڈ رال
- مقامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
- بین الاقوامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
- مقامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز
- بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز

سلور کارڈ کیلئے 1400 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 1750 روپے اور پلاٹینم کارڈ کیلئے 4000 روپے
سلور کارڈ کیلئے 800 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 1000 روپے اور پلاٹینم کارڈ کیلئے 2000 روپے
3.5 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم
اصل
اصل
اصل
اصل

- h. بین الاقوامی سطح پر بیلنس انکوائری چارجز
i. ویزا آر بیٹریشن چارجز
j. بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن
- 200 روپے
اصل
3.5 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر

IV. موبائل بینکنگ

موبائل بینکنگ پن کے دوبارہ اجراء پر 100 روپے

V. چائنا یونین بے

- a. سالانہ/اجراء/تجدید/متبادل کی فیس - بنیادی
b. سالانہ/اجراء/تجدید/متبادل کی فیس - سپلیمنٹری
c. بین الاقوامی سطح پر ای ایم کیس وڈرال
d. بین الاقوامی سطح پر بیلنس انکوائری
e. بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن
f. مقامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
g. بین الاقوامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
h. مقامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز
i. بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز
- 1250 روپے
750 روپے
3.5 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر
200 روپے
3.5 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر
اصل
اصل
اصل
اصل

VI. یوٹیلیٹی بلز اور دیگر ادائیگیوں کیلئے چارجز

- A. ڈائریکٹ ڈیبٹ کی سہولت
a. ہر کامیاب ٹرانزیکشن پر
b. ناکافی فنڈز کی وجہ سے ناکامیاب ٹرانزیکشن
- 25 روپے
25 روپے

VII. بے پاک

- a. سالانہ/اجراء/تجدید/متبادل کی فیس
b. لوکل چارج بیک کی درخواست کے چارجز
c. لوکل ریٹریول کی درخواست کے چارجز
- 900 روپے
اصل
اصل

نوٹ۔ تمام کرنٹ اکاؤنٹس پر بے پاک ڈیبٹ کارڈ پر جاری کرنے/سالانہ/تجدید کی فیس معاف کرنے کے لیے، صارفین کو پچھلے/اگلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، جیسا کہ ذیل میں بتایا گیا ہے۔

- (i) نئے اکاؤنٹ ہولڈرز کو اگلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، جب CPU کی جانب سے اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔ (یہ اس وقت لاگو ہوگا جب اکاؤنٹ کھولنے کے فارم کے ذریعے درخواست دی جائے گی)۔
- (ii) موجودہ اکاؤنٹ ہولڈرز کو پچھلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا۔ اگر سی پی یو سے درخواست پر کارروائی کے بعد پچھلے مہینے کی مدت (یعنی 30 دن) مکمل نہیں ہوتی ہے تو اگلے مہینے میں ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھا جانا چاہیے۔ (یہ اس وقت لاگو ہوگا جب الیکٹرانک درخواست فارم/کال سینٹر کے ذریعے ڈیبٹ کارڈ کے لیے درخواست دی جائے گی)۔

- (iii) بے پاک ڈیبٹ کارڈ چارجز ان اکاؤنٹس پر لاگو نہیں ہوں گے جن میں بینک نے چارجز سے استثنیٰ دیا ہے۔

VIII. کریڈٹ کارڈ

- a. کریڈٹ کارڈ اے پی آر 25 فیصد سالانہ
 - b. حد سے زیادہ کی فیس 500 روپے
 - c. تاخیر سے ادائیگی کی فیس 1250 روپے یا کم از کم واجب الادا ادائیگی کا 10 فیصد، جو بھی زیادہ ہو
 - d. کیش ایڈوانس فیس 600 روپے یا 3 فیصد، جو بھی زیادہ ہو
 - e. کریڈٹ کارڈ پن کی تبدیلی کی فیس 500 روپے
 - f. کریڈٹ کارڈ کی تبدیلی کی فیس 1250 روپے
 - g. چیک کے واپس ہونے پر فیس 600 روپے
 - h. فروخت کی رسید کی حصول کے چارجز (مقامی) اصل
 - i. فروخت کی رسید کی حصول کے چارجز (بین الاقوامی) اصل
 - j. غیر ملکی ٹرانزیکشن پر چارجز 3.5 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر
- IX. ایس ایم ایس الرٹ سروس 90 روپے ماہانہ

کیش پیمنٹ سروسز

- a. ملک بھر میں کلیکشن سولیوشنز (کارپوریٹس/ایس ایم ایز/ایف آئیز کے لیے) معاہدے کے مطابق
- b. بلک سیلیریز/ادائیگیاں معاہدے کے مطابق
- c. ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ادائیگی کا انتظام معاہدے کے مطابق
- d. کسٹمائزڈ ایم آئی ایس / رپورٹنگ معاہدے کے مطابق
- e. بینکرز ٹودی ایٹو/فلوئشنز (آئی پی او/ایف ایف سیز/رائٹ شیئرز وغیرہ) معاہدے کے مطابق
- f. دیگر کوئی سروس معاہدے کے مطابق
- g. الحیب پیمنٹ سسٹم (بلک پیمنٹس) معاہدے کے مطابق

نوٹ:

- حکومت کی جانب سے لاگو ٹیکسز/حکومتی ڈیوٹیاں ریگولر چارجز کے علاوہ صارف سے چارجز وصول کئے جائیں گے، جہاں لاگو ہوں۔
- اسلامک بینکنگ کے صارفین پر اسلامک بینکنگ شیڈیول آف چارجز کے مطابق چارجز لگائیں گے۔
- پروسیڈنگ کی غلطی کی صورت میں عائد ہونے والے چارجز واپس کر دیئے جائیں گے
- ہفتے کے دن آن لائن کیش جمع کروانے/نکلوانے کیلئے آن لائن چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے

UNSC ریزولوشنز کے تحت بلاکڈ / منجمد اکاؤنٹس یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان / قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے جاری کردہ دیگر ایس آر او کسی بھی قسم کے چارجز میں کسی بھی قسم کی کٹوتی سے مشروط نہیں ہوں گے۔

الحیب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ

A. متفرق چارجز

i بینکرز چیک کا اجراء

ii چیک بک چارجز

iii چیکوں کی اسٹاپ پیمنٹ

iv لوز چیک کا اجراء

v ایس ایم ایس الرٹ سروس

vi کم از کم بیلنس کے چارجز

vii یوٹی بی/موبائل بل کی ادائیگی

viii بینک الحیب لکسی بھی اکاؤنٹ میں فنڈز کی منتقلی

ix اے ٹی ایم/انٹرنیٹ بینکنگ/موبائل بینکنگ

300 پاکستانی روپے

15 روپے فی لیف

500 پاکستانی روپے

30 روپے فی لیف

90 پاکستانی روپے ماہانہ (مقامی)

مفت

مفت

مفت

مفت 25,000 IBFT روپے تک فی مہینہ/فی اکاؤنٹ کے ذریعے انٹرنیٹ فنڈز کی منتقلی 25,000 روپے سے زیادہ کی اضافی رقم کی ٹرانزیکشن کے لیے فی مہینہ مہینہ (صرف PKR اکاؤنٹس کے لیے) فی اکاؤنٹ، 0.1 فیصد یا 200 روپے، جو بھی کم ہو وصول کیا جائے گا۔

500 پاکستانی روپے فلیٹ

300 پاکستانی روپے فی سرٹیفکیٹ

300 پاکستانی روپے فی انسٹرومنٹ

600 پاکستانی روپے فلیٹ

100 پاکستانی روپے فی سرٹیفکیٹ

35 پاکستانی روپے

اضافی 35 پاکستانی روپے فی 6 ماہ

200 پاکستانی روپے

(i) 2300 پاکستانی روپے

(ii) اس میں کوریئر کمپنی کے سروس چارجز سمیت کوریئر چارجز کی کٹوتی صارفین کے اکاؤنٹ سے کی جائے گی۔ 150 پاکستانی روپے

1000 پاکستانی روپے فی پیغام

مفت - تمام بین الاقوامی عہدوں کیلئے

(a) - 18 امریکی ڈالر

(b) - مفت - کرسپانڈنٹ بینک چارجز لاگو ہو سکتے ہیں۔

(c) - 10 امریکی ڈالر

(d) - امریکی ڈالر 6 پلس ڈرای بینک چارجز۔ اصل

کوئی نہیں۔ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں رقم جمع ہو جاتی ہے بصورت دیگر پاکستانی روپے

300 چارجز

روایتی بینکنگ اکاؤنٹس پر 1 فیصد کمیشن

1,200 پاکستانی روپے فی ٹرانزیکشن

2,500 پاکستانی روپے ماہانہ

100 روپے۔

x اسی دن کلیئرنگ چیک چارجز

xi اکاؤنٹ میینٹیننس سرٹیفکیٹ

xii این ایف ٹی کے ذریعے انٹرنیٹ چیکس کلکیشن

xiii انٹرنیٹ چیک ریٹرن چارجز

xiv بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ

xv درخواست پر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کا اجراء

(i) 6 ماہ تک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

(ii) 6 ماہ سے زیادہ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

xvi بین الاقوامی ڈاک/کوریئر/سوفٹ چارجز حسب ذیل وصول کیے جائیں گے:

ڈاک

کوریئر

سوفٹ

xvii ویکم پیک ڈیلیوری

B ترسیلات زر - غیر ملکی

I بیرونی

(a) - ڈیمانڈ ڈرافٹس

(b) - ایف ٹی ٹی

(c) - ایف ڈی ڈی کی منسوخی

(d) - ایف ڈی ڈی کی اسٹاپ پیمنٹ

III اندرونی

(a) - MT/TT/DD

(b) - فارن ٹریولرز چیک کا اجراء

C - انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سکیورٹیز اکاؤنٹ (IPS)

(i) انویسٹر کارپورٹ فولیو سکیورٹیز

(ii) کسٹڈی اکاؤنٹ چارجز

D - اے ٹی ایم

(a) - اے ٹی ایم پن کا دوبارہ اجراء

(b) اے ٹی ایم سوئچ ٹرانزیکشنز

(i) دوسرے بینک کے اے ٹی ایم سے کیش نکلوانے پر

(ii) مقامی بینکس انکوائری چارجز

(iii) اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ فیس

E. ویزہ ڈیپٹ کارڈ

(a) سالانہ/اجرا/تجدید/تبدیلی کی فیس۔ پرائمری

(b) سالانہ/اجرا/تجدید/تبدیلی کی فیس۔ سپلیمنٹری

(c) بین الاقوامی اے ٹی ایم اسے رقم نکلوانے پر

(d) مقامی چارجز کی واپسی کی درخواست کے چارجز

(e) بین الاقوامی چارجز کی واپسی کی درخواست کے چارجز

(f) مقامی ریٹریول کی درخواست کے چارجز

(g) بین الاقوامی ریٹریول کی درخواست کے چارجز

(h) انٹرنیشنل بینکس انکوائری چارجز

(i) ویزہ ثالثی چارجز

(j) بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن

(F) الحیب روشن اپنا گھر

(a)۔ پروسیڈنگ فیس

(b)۔ ابتدائی تصفیہ فیس/چارجز (مکمل/جزوی)

(c)۔ دیر سے ادائیگی کے چارجز

(d)۔ ناکارہ/واپس کئے گئے چیکس پر چارجز

(e)۔ جائیداد کی تشخیص/تشخیصی چارجز

(f)۔ وکیل کی تشخیص کی فیس

(g)۔ آمدنی کے تخمینے کے چارجز/فیس

(h)۔ دستاویزات اور اسٹیمپ ڈیوٹی چارجز

(i)۔ کوریئر چارجز (غیر ملکی)

G۔ الحیب روشن اپنی کار

(a)۔ پروسیڈنگ فیس

(b)۔ ابتدائی سیٹلمنٹ فیس/چارجز (مکمل/جزوی)

(c)۔ تاخیر سے ادائیگی کے چارجز

(d)۔ ناکارہ/واپس شدہ چیکس پر چارجز

(e)۔ دوبارہ قبضے کے چارجز (شہر کے اندر اور باہر)

(f)۔ گاڑی کی تشخیص/تشخیصی چارجز

(g)۔ دوبارہ قبضہ شدہ گاڑیوں کی تشخیص/تشخیصی چارجز

(h)۔ قانونی چارہ جوئی/قانونی چارجز

(i)۔ جزوی ادائیگی فیس/چارجز

(j)۔ ذاتی حادثاتی بیمہ

(k)۔ گاڑی کی رجسٹریشن/ٹرانسفر چارجز

(l)۔ گودام کے چارجز

(m)۔ کوریئر چارجز (غیر ملکی)

(n)۔ تصدیقی چارجز

18.75 روپے فی ٹرانزیکشن

2.50 روپے فی ٹرانزیکشن

2.50 روپے فی ٹرانزیکشن

سلور کارڈ کے لئے 1,400 روپے، گولڈ کارڈ کے لئے 1,750 روپے، پلائیم کارڈ

کے لئے 4,000 روپے

سلور کارڈ کے لئے 800 روپے، گولڈ کارڈ کے لئے 1,000 روپے، پلائیم کارڈ کے

لئے 2,000 روپے

ٹرانزیکشن کی رقم کا 3.5 فیصد

اصل

اصل

اصل

اصل

200 روپے

اصل

ٹرانزیکشن کی رقم کا 3.5 فیصد

4,000 روپے

ایک سال کے اندر 1 فیصد، اسکے بعد کوئی چارجز نہیں

تاخیر سے ادائیگی پر فی قسط 900 روپے

500 روپے فی کیس

اصل

اصل

اصل

اصل

اصل

7,000 روپے فلیٹ

آفریٹر میں شرائط و ضوابط کے مطابق

تاخیر سے ادائیگی پر فی قسط 900 روپے

500 روپے فی کیس

100,000 روپے یا اصل میں جو بھی کم ہو۔

اصل

اصل

اصل

آفریٹر میں مذکور شرائط و ضوابط کے مطابق

کوئی نہیں

اصل

اصل، جہاں قابل اطلاق ہو۔

اصل

اصل

H گیٹ وے ٹوائیکوٹی مارکیٹ (GEM)

GEM (a) اکاؤنٹ کھولنا

(b) بروکر چارجز

GEM (c) فیسیلیٹیشن چارجز

(d) تحویل کے چارجز (مارکیٹ ویلیو)

(e) پیسے نکلوانے کے چارجز

پیسے نکلوانے پر (سی ڈی سی چارجز)

واپسی کی پروسیجرنگ فیس (بینک چارجز)

(f) ڈپازٹ چارجز

ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی)

ڈپازٹ پروسیجرنگ فیس

(g) شیئر ٹرانسفر چارجز جمع کرنے یا نکلوانے پر

(h) شیئر پلج چارجز

(i) NCCPL چارجز

(j) UIN سالانہ چارجز (پہلے سال لاگو نہیں)

(k) سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھولنے کے سالانہ انفرادی اکاؤنٹ چارجز

(پہلے سال لاگو نہیں) (سی ڈی سی چارجز)

نوٹ: دیگر تمام فیسوں اور چارجز کے لیے، براہ مہربانی ہمارے بینک کا شیڈول آف چارجز ملاحظہ کریں۔

انفرادی (انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر روپے 2,000 (1400 روپے بینک کے سہولت کاری چارجز، 400 روپے سی ڈی سی چارجز، 200 روپے یو آئی این چارجز) کم از کم شرح 3 پیسے یا 0.15 فیصد، جو بھی زیادہ ہو) ہر ایسی خرید و فروخت پر جو اسی دن کے دوران نہیں کی گئی ہو)

سیکیورٹی ریٹ کمیشن کم از کم زیادہ سے زیادہ (روپے میں) (فیصد میں) (روپے میں)

199.99 تک 0.10- فیصد 0.01 0.15

200-399.99 0.075 فیصد 0.15 0.30

400 سے زیادہ 0.05 فیصد 0.30 0.50

شیئرز کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

TFCs کے لیے 0.1000- فیصد سالانہ

رائٹس کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

شیئرز کیلئے -0.10 روپے فی شیئر .

TFC کیلئے - روپے فی یونٹ 50 روپے

رائٹس کیلئے فی رائٹ 0.10

شیئرز/ یونٹس/ رائٹس کیلئے 0.50 فی شیئر/ یونٹ/ رائٹ

شیئرز/ یونٹس/ رائٹس کیلئے 0.50 فی شیئر/ یونٹ/ رائٹ

شیئرز کے لیے 0.01 روپے فی شیئر

TFCs کے لیے 0.01 روپے فی یونٹ

رائٹس کے لیے 0.01 روپے فی رائٹ

شیئرز/ یونٹس/ رائٹس کیلئے 0.50 روپے فی شیئر/ یونٹ/ رائٹ

شیئرز کے لیے -0.010 فیصد فی شیئر

(کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے اور 60,000 روپے ہوگی)

شیئرز کے لیے 0.004 فیصد فی شیئر

0.0025 فیصد فی شیئر

کارپوریٹ اکاؤنٹ 2500 روپے

انفرادی اکاؤنٹ 200 روپے

400 روپے

GEM - ٹیرف شیڈیول

انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر 2,000 روپے (بینک کی خدمات کے چارجز کی مد میں) 1400 روپے، سی ڈی سی چارجز 400 روپے، یو آئی این چارجز 200 روپے) کارپوریٹ اکاؤنٹ ہولڈر 5,000 روپے 3 پیسہ یا 0.15 فیصد جو بھی زیادہ ہو	GEM(a) اکاؤنٹ اوپننگ (انفرادی) GEM(b) اکاؤنٹ اوپننگ (کارپوریٹ) (c) بروکر چارجز
(ہر ایک خرید و فروخت کے سودے پر جو کہ اُسی کاروباری دن میں برابر نہ ہوا ہو) سیکیورٹی ریٹ کمیشن (شرح) کم از کم زیادہ سے زیادہ (روپے میں) (روپے میں) 199.99 تک 0.10 فیصد 0.01 200 سے 399.99 0.075 فیصد 0.15 400 سے زیادہ 0.05 فیصد 0.30	GEM(d) فیسیلیٹیشن چارجز (e) کسٹومڈیل چارجز (f) نکلوانے کے چارجز نکلوانے کی فیس (سی ڈی سی چارجز)
شیئرز کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ ٹی ایف سی 0.1000 فیصد سالانہ رائٹس کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ شیئرز کے لئے 0.10 روپے فی شیئر ٹی ایف سی کے لئے 50 روپے فی یونٹ رائٹس کے لئے 0.10 روپے فی رائٹ رائٹ انٹیکلمنٹ ڈپازٹ	(g) جمع کروانے کے چارجز ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی چارجز) ڈپازٹ کی کارروائی کی فیس (بینک چارجز) (h) ڈپازٹ کی کارروائی کی فیس (بینک چارجز) شیئرز کی منتقلی کے چارجز ان / آؤٹ
شیئرز کے لئے 0.01 روپے فی شیئر ٹی ایف سی 0.01 روپے فی یونٹ رائٹس کے لئے 0.01 روپے فی رائٹ شیئرز / یونٹس / رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیئر / یونٹ / رائٹ شیئرز کے لئے 0.010 فی شیئر (کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے سے 60,000 روپے ہوگی) شیئرز کے لئے 0.004 فیصد فی شیئر 0.0025 فیصد فی شیئر	(i) شیئرز پلچ فیس (j) NCCPL چارجز

(k) UIN سالانہ چارجز (پہلے سال لاگو نہیں ہوگی) (NCCPL)
کارپوریٹ اکاؤنٹ 2500 روپے
انفرادی اکاؤنٹ 200 روپے

(ا) انفرادی اکاؤنٹ کیلئے سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھولنے پر سالانہ چارجز 400 روپے
(پہلے سال کیلئے لاگو نہیں) (سی ڈی سی چارجز)

چارجز وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتے ہیں بینک شیڈول آف چارجز کے مطابق اور یہ اکاؤنٹ ہولڈر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان پر عمل کرے۔
تمام چارجز ناقابل واپسی ہیں جب تک کے بینک اس کے برعکس ظاہر نہ کرے۔
* لاگو حد 3 پیسہ فی حصص یا 0.15% سودے کی رقم پر جو بھی زیادہ ہو 2.5% تک اور ظاہر کئے گئے سودوں کی رقم کا۔